

برائے فوری اجراء

## برامپٹن سٹی کونسل نے مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء کی منظوری دے دی

### برامپٹن کے رہائشیوں میں دس لاکھ نان میڈیکل ماسک تقسیم کیے جائیں گے

برامپٹن، آن (9 جون 2020) – بروز جمعہ، 10 جولائی سے شروع کرتے ہوئے، کورونا وائرس (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر لازمی ہوں گی۔

پبل پبلک ہیلتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، برامپٹن سٹی کونسل نے گزشتہ روز برامپٹن کووڈ-19 مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء منظور کر دیا، جو 1 اکتوبر 2020 تک مؤثر رہے گا۔ اس عمل میں کمیونٹی کی معاونت کے لیے، سٹی رہائشیوں میں دس لاکھ نان میڈیکل ماسک تقسیم کر رہی ہے، جو برامپٹن کے ہر گھر کو بذریعہ ڈاک تین ماسک بھیج کر شروع کیا جائے گی۔

یہ عارضی ضمنی قانون سرکاری اداروں اور کاروباروں سے تقاضہ کرے گا کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے زیر قابو اندرونی عوامی جگہوں پر ماسک پہنے جائیں یا چہرے کو ڈھانپا جائے۔

ایسی جگہیں، جہاں نان میڈیکل ماس یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں لازمی ہوں گی، ان میں شامل ہیں:

- ریٹیل اسٹور، جہاں گاہکوں کو اشیاء اور خدمات فروخت کی جاتی ہیں
- کاروبار، جو بنیادی طور پر کھانا فروخت کرتے ہیں، بشمول ریستورینٹ، سپر مارکیٹس، گروسری اسٹور، بیکریاں اور کنوینینس اسٹور
- گرجا گھر، مساجد اور دیگر عبادت گاہیں، ماسوائے ایسے مذہبی امور یا تقریبات کے دوران، جن میں چہرے کو ڈھانپنا نہیں جا سکتا
- کمیونٹی اور تفریح کی اندرونی سہولت گاہیں
- شاپنگ مالز اور اسی طرح کی جگہیں، جہاں کاروباری کی کئی جگہیں موجود ہوں
- ذاتی نگہداشت کی خدمات فراہم کرنے والے کاروبار
- بوتلوں اور موٹیلز کی مشترکہ جگہیں اور دیگر قلیل مدتی رہائشیں
- لائبریریاں، عجائب گھر، گیلریاں اور اسی طرح کی دیگر سہولت گاہیں
- بینکوٹ ہالز، کنوینشن سنٹرز، اریناز، اسٹیڈیمز اور تقریبات کی دیگر جگہیں
- کانسرٹس کی جگہیں، تھیٹر، سنیما، کیسینوز اور دیگر تفریحی ادارے
- اوپن ہاؤس اور پریزیٹیشن سنٹر کے طور پر استعمال کی جانے والی جگہیں یا ریٹل اسٹیٹ کے مقاصد کے لیے دیگر سہولت گاہیں
- سٹی آف برامپٹن میں کام کرنے والی ذاتی نقل و حمل کی کمپنیاں
- میونسپلٹی کے زیر انتظام عمارتیں
- دیگر کاروبار، تنظیمیں اور جگہیں، جنہیں ہنگامی احکامات کے تحت کام کرنے کی اجازت دی گئی ہو یا دی جا سکتی ہو۔

اس ضمنی قانون کی پابندی نہ کرنے والے افراد اور کاروباروں پر ہر مرتبہ خلاف ورزی کی صورت میں کم از کم \$500 اور زیادہ سے زیادہ \$100,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔

یہ ضمنی قانون مخصوص افراد کو استثناء فراہم کرتا ہے، بشمول وہ لوگ، جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیز نہیں پہن سکتے؛ دو سال کی عمر سے کم بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد اور اجازت شدہ اندرونی کاروباروں میں کھانے یا پینے والے لوگ (جہاں صوبے نے کھانے پینے کی اندرونی جگہیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے)۔ مکمل فہرست کے لیے، [brampton.ca/masks](http://brampton.ca/masks) ملاحظہ کریں۔

مؤرخہ 2 جولائی سے، برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور ٹرینیلز پر نان میڈیکل ماسک پہننے لازمی ہیں۔

نان میڈیکل ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں ان چار بنیادی احتیاطی تدابیر میں سے ہیں، جو پبلک ہیلتھ نے فراہم کیے ہیں۔ دیگر تین اقدامات میں دور رہنا، ہاتھ دھونا یا جراثیم کش استعمال کرنا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کورونا وائرس میں مبتلا ہیں، تو اس کا ٹیسٹ کروانا، شامل ہیں۔ [peelregion.ca/coronavirus/core-four/](http://peelregion.ca/coronavirus/core-four/) ملاحظہ کریں۔ نان میڈیکل ماسکز، چہرے کو ڈھانپنے کی چیزوں اور دیگر ذاتی حفاظت کے آلات (PPE) کے متعلق مزید جاننے کے لیے [peelregion.ca/coronavirus/prevention/](http://peelregion.ca/coronavirus/prevention/) ملاحظہ کریں۔

کاروباروں اور سہولت گاہوں کو چلانے والے لوگوں کے لیے اضافی معلومات اور وسائل [brampton.ca/masks](http://brampton.ca/masks) پر دستیاب ہیں۔

کووڈ-19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے [brampton.ca/COVID19](http://brampton.ca/COVID19) ملاحظہ کریں۔

#### اقتباسات

"جیسا کہ ہمیں ہمارے پبلک ہیلتھ کے حکام نے بتایا ہے، لازمی ماسک کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ اس وائرس سے آگے بڑھنا جاری رکھنے کے لیے، ہم تمام ضروری احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سٹی برامپٹن کے رہائشیوں میں دس لاکھ نان میڈیکل ماسک تقسیم کرے گا۔ مجھے پورے GTA میں ماسک پہننے کے مجموعی عمل سے حوصلہ افزائی ملی ہے اور میں جانتا ہوں کہ برامپٹن کے رہائشی کمیونٹی کی صحت و سلامتی کو ترجیح اور تحفظ دینے میں اپنا کردار ادا کرنا جاری رکھیں گے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"صوبے کو دوبارہ کھولنے کے مرحلہ 2 میں بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کی کوششوں کے نتائج نظر آنے ہیں۔ اس سخت محنت کو جاری رہنا ہو گا۔ ہم اقدامات کے حوالے سے اپنے مقامی طبی ماہرین کے مشورے، مثلاً اندرونی جگہوں پر نان میڈیکل ماسک کا لازمی استعمال، پر عمل کر کے بحالی کے اپنے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔"

مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ سٹی بتدریج دوبارہ کھلنا اور بحفاظت خدمات کو دوبارہ شروع کرنا جاری رکھتا ہے، ہم کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے ہر موقع پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ نان میڈیکل ماسکز کو لازمی بنانا ہماری کمیونٹی اور معیشت کے بہترین مفاد میں ہے اور ہم پورے شہر میں اس کے نفاذ کے دوران اپنے ملازمین، رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کے لیے سب کچھ کریں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)